



سوال

(140) دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا نماز میں یا نماز کے بعد دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، لہذا اسے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ اثر وارد ہے کہ وہ دونوں دعا کرتے اور دعا کے بعد اپنی ہتھیلیوں کو اپنے چہرے کی طرف گھم لیتے تھے۔ (الأدب المفرد: 609)

لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس اثر کو بھی "ضعیف" قرار دے کر اسے "ضعیف الادب المفرد" میں شامل کیا ہے۔ وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کی سند میں محمد بن فلج اور اس کے والد فلج میں ضعف ہے۔

حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب "بلوغ الأثر من أدبہ الأحکام" میں "باب الذکر والدعا" کے تحت ترمذی کی درج ذیل روایت پیش کی ہے:

حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا میں اپنے ہاتھ اٹھاتے تو انہیں واپس نہیں لاتے تھے یہاں تک کہ انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے۔ محمد بن ثنی نے اپنی روایت میں کہا کہ نہ لوہاتے ان کو (ہاتھوں کو) جب تک اپنے منہ پر پھیر نہ لیتے۔ (ترمذی، کتاب الدعوات عن رسول اللہ (ص)، باب: ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء، حدیث: 3714)

حدیث کو پیش کرنے کے بعد حافظ صاحب نے لکھا ہے:

اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کے کئی شواہد ہیں جن میں ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو ابوداؤد وغیرہ میں ہے، ان سب کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ حسن حدیث ہے۔

لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دے کر اسے "ضعیف سنن الترمذی" میں شامل کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق، ترمذی کی اس سند میں حماد



بن عیسیٰ الجہنی ضعیف راوی ہے۔

حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے ابوداؤد کی جس حدیث کو بطور شاہد پیش کیا ہے، وہ کچھ یوں ہے :

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

دعا کرو اللہ سے ہتھیلیاں اوپر اٹھا کر، نہ کہ ہتھیلیوں کی پشت اوپر کر کے، جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھ منہ پر پھیر دو۔ (ابوداؤد، کتاب الوتر، باب : الدعاء، حدیث : 1487)

مگر۔۔۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ہی خود امام ابوداؤد نے لکھا ہے :

”قال ابوداؤد روی ہذا الحدیث من غیر وجہ عن محمد بن کعب کلما واہیہ و ہذا طریق أمثلہا و ہو ضعیف ایضا“

یہ حدیث محمد بن کعب سے کئی طریقوں سے مروی ہے مگر سب طریق ضعیف ہیں اور یہ طرق جو میں نے ذکر کیا ہے، ان سب طریقوں میں بہتر ہے، اس کے باوجود یہ طرق بھی ضعیف ہے۔

یعنی کہ امام ابوداؤد نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو "ضعیف" قرار دے کر اسے "ضعیف سنن ابوداؤد" میں شمار کیا ہے۔

مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا سنت نبوی نہیں ہے اور کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔

حذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ علمائے حدیث

جلد 3